

موسمی لحاظ سے ہنگامی حالات کے لیے تیاری کا کیلنڈر

خطرے کو جانیں - ایک منصوبہ بنائیں - ایک کٹ رکھیں

سرما دسمبر	خزاں ستمبر	گرما جون	بہار مارچ
 <p>اپنی کٹ بنائیں: بہاری دستانے، حفاظتی چشمے، ڈسپوزیبل ڈسٹ ماسک، تاش، گیمز، کتابیں، رسالے</p> <p>سرگرمیاں: چیک کریں دیکھیں کہ ذخیرہ شدہ اشیاء کی معیاد ختم ہو گئی ہے اور انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے</p> <p>تقریبات: نیو ایئرز ایوو کی تقریبات</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: رین گیٹر، ٹوپیاں، مفلر، رسہ</p> <p>سرگرمیاں: اپنی کار کے لیے ایک ایمرجنسی کٹ بنائیں</p> <p>تقریبات: سکول کا آغاز، برامپٹن فارمرز مارکیٹ</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: تین دن کے لیے پانی کا بندوبست (فی شخص 4 لیٹر روزانہ) اور پالتو جانوروں کے لیے بھی</p> <p>سرگرمیاں: اپنے پڑوسیوں سے بات کریں کہ اگر کسی کے پاس مفید مہارتیں ہوں یا ہنگامی حالت کے لیے تربیت</p> <p>تقریبات: سیلی برامپٹن (CeleBrampton)، برامپٹن فارمرز مارکیٹ</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: پالتو جانوروں کا سامان (خوراک، پتہ، پیٹ کیریئر) اور خصوصی غذائی ضروریات کی کھانے پینے کی اشیاء</p> <p>سرگرمیاں: کسی کو کہیں کہ وہ اگر آپ کام پر موجود ہوں اور کوئی ہنگامی صورت واقع ہو جائے، تو آپ کے پالتو جانوروں کا خیال رکھا جائے</p> <p>تقریبات: ارتھ ڈے</p>
جنوری	اکتوبر	جولائی	اپریل
 <p>اپنی کٹ بنائیں: ہر شخص کے لیے سلیپنگ بیگ یا کمبل، کین کھولنے کا مینوئل آلہ، فلیش لائٹ بیٹریاں</p> <p>سرگرمیاں: بیٹریاں تبدیل کریں اور اپنے سموک اور CO الارم کو ٹیسٹ کریں</p> <p>تقریبات: نیو ایئرز ایوو</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: پین، کاغذ، پنسل، واٹر پروف ماچس، المونیم فوائل</p> <p>سرگرمیاں: ہوم فائر ڈرل کی مشق کریں</p> <p>تقریبات: برامپٹن فارمرز مارکیٹ کا اختتام، فائر پریویشن ویک</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: فینجی، استعمال کا چاقو، ڈکٹ ٹیپ، سیٹی، اضافی کپڑے اور جوتے</p> <p>سرگرمیاں: ایسے کمزور پڑوسیوں کو ذہن میں رکھیں جن کو ہنگامی حالات میں مدد کی ضرورت ہو سکتی ہو</p> <p>تقریبات: کینیڈا ڈے، برامپٹن فارمرز مارکیٹ</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: نقد رقم معمولی بل، پورٹیبل کرینڈ یا بیٹری پر چلنے والا AM/FM ریڈیو، اضافی بیٹریاں</p> <p>سرگرمیاں: تمام اہم کاغذات اور نسخہ جات کی فوٹو کاپیاں بنا لیں</p> <p>تقریبات: نیشنل والنٹیئر ویک</p>
فروری	نومبر	اگست	مئی
 <p>اپنی کٹ بنائیں: ٹوائلٹ پیپر اور ذاتی حفظان صحت کی دیگر اشیاء، خراب نہ ہونے والی کھانے پینے کی اشیاء، فرسٹ ایڈ کٹ</p> <p>سرگرمیاں: ایک فیملی ایمرجنسی پلان بنائیں (گھر سے باہر بھاگنے کا پلان، ابلاغ کا پلان، اہم فون نمبر)</p> <p>تقریبات: بلیک بسٹری منتھ</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: بنائیں چمٹا، پیچ، کش، رینچ، ہتھوڑا اور کھانے پینے کے برتن</p> <p>سرگرمیاں: تیاری کریں آپ کے پالتو جانوروں کے لیے ایمرجنسی کٹ</p> <p>تقریبات: ریممبرنس ڈے پریڈ اور سروس، درختوں کو روشن کرنا، سانتا کلاز پریڈ</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: کچرے کے لیے بیگ، موسم کے انتباہات کا ریڈیو</p> <p>سرگرمیاں: مہنگے سامان کے ذخیرہ کے لیے پڑوسیوں سے ملیں۔ جو چیزیں ہنگامی حالات میں شبہ کی جا سکتی ہیں (چین والے آرے، سنو بلوئرز وغیرہ)</p> <p>تقریبات: برامپٹن فارمرز مارکیٹ</p>	 <p>اپنی کٹ بنائیں: ادویات (دافع درد ادویات وغیرہ)، خصوصی ضروریات کی اشیاء (بچوں کا فارمولا وغیرہ)، ہینڈ سینٹائزر</p> <p>سرگرمیاں: ہنگامی حالات کی تیاری کرنے کے لیے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کی حوصلہ افزائی کریں</p> <p>تقریبات: ہنگامی حالات کی تیاری کا ہفتہ، کاروباری تسلسل سے آگاہی کا ہفتہ، نیشنل پبلک ورکس کا ہفتہ</p>



کیا آپ کو تحفظ حاصل ہے؟

کوئی آفت آجاتی ہے،
تو کیا آپ تیار ہوں گے؟
ہنگامی حالات کی تیاری
کے لیے مفید مشورے:
مواد کی انشورنس



پیسے بچائیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنی
انشورینس پر **ڈسکاؤنٹ** حاصل کر سکتے ہیں؟



مطلع رہیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ **ہر کسی کو**
انشورینس کرانی ہوتی ہے، بیشک
آپ **کرایہ** کے گھر میں رہتے ہوں؟



قبل از وقت ہوشیار رہیں
کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی انشورینس
کیا **تحفظ دیتی ہے** اور **کیا نہیں دیتی؟**



ایک پلان بنائیں
بونے والے کسی قسم کے نقصان کی
تصاویر اور نوٹس بنا کر اپنے
گھر کے سامان پر نظر رکھیں!



اپنے خطرات کو جانیں
آپ کے علاقے میں کس قسم
کے **خطرات** موجود ہیں؟



تحفظ محسوس کریں
آپ کی انشورینس کمپنی
آپ کی مالی امداد کا اولین ذریعہ ہے
کسی بھی آفت کے بعد!